



## رہبر معظم کا فوجی یونیورسٹیوں میں زیر تربیت اور فارغ التحصیل جوانوں کی مشترکہ پریڈ سے خطاب - 19 /Oct/ 2008

رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ ای کی موجودگی میں آج سہ پہر کو امام علی (ع) یونیورسٹی میں فوجی یونیورسٹیوں میں زیر تربیت اور فارغ التحصیل فوجی جوانوں کی مشترکہ پریڈ، حلف برداری اور نشان عطا کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔

اس تقریب کے آغاز میں جمہوری اسلامی ایران کا قومی ترانہ پیش کیا گیا اس کے بعد امام علی (ع) یونیورسٹی کے کمانڈر نے مسلح افواج کے سربراہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کو خیر مقدم عرض کیا۔

اس کے بعد رہبر معظم انقلاب اسلامی 8 سالہ دفاع مقدس کے شہداء کی یادگار پر حاضر ہوئے اور ان کے درجات کی بلندی اور ان کی پاک ارواح کے لئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر میدان میں موجود دستوں کی پریڈ کا مشاپدہ کیا۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سربراہ حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ ای نے اس تقریب میں جمہوری اسلامی ایران کی مسلح افواج کو ملک کا مضبوط و مستحکم حصار قرار دیتے ہوئے فرمایا: قوم، مسلح افواج کی پشتپناہ ہے اور ان کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتی ہے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ملک کی مسلح افواج کو قومی اقتدار کا بہت بی اہم حصہ قرار دیتے ہوئے فرمایا: قومی اقتدار اور طاقت کے مظہر کی اہمیت اس وقت مضاعف اور دوگنا ہو جاتی ہے جب مسلح افواج ملک کے دفاع میں روایتی بنتھیاروں اور ظاہری طاقت کے علاوہ، معنوی طاقت اور ایمان کے جذبہ سے بھی سرشار ہوں اور آج ایران اپنے مسلح، شجاع، فداکار اور مؤمن جوانوں کی بدولت دنیا اور پوری تاریخ میں غیر معمولی طاقت کا حامل بن گیا ہے۔

مسلح افواج کے سربراہ نے فرمایا: جمہوری اسلامی ایران کی مسلح افواج کی عظمت و اقتدار کا مظہر بنتھیاروں کی طاقت نہیں بلکہ توحیدی و انسانی اقدار کی حفاظت ان کے معنوی اقتدار اور مستحکم ایمان کا آئینہ دار ہے۔



ریبر معظم انقلاب اسلامی نے عالمی طاقتوں کی فوج کو سامراجی طاقتوں کے رعب و بدبدہ اور ان کی حرص و طمع کی آگ بجهانے کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا: جمہوری اسلامی ایران کی مسلح افواج اسلامی اقدار پر فدا ہیں اور وہ انسانی اور الیٰ فضائل کو مضبوط بنانے کے لئے دفاعی مشقیں اور تمرینات انجام دیتی ہیں، میدان میں استقامت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور دشمن پر واضح اور ٹھوس فتح و کامیابی حاصل کرتی ہیں۔

مسلح افواج کے سربراہ نے اسرائیل کی پر لحاظ سے مسلح افواج کے مقابلے میں حزب اللہ لبنان کے مؤمن اور فدکار جوانوں کی فتح و کامیابی اور اسرائیلی اور اسرائیلی فوج کی ذلت آمیزشکست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ فتح درحقیقت مادی طاقتوں پر معنوی طاقتوں کی فتح ہے اور ایران کے عزیز فوجیوں، سپاہیوں اور رضاکار دستوں کو اپنی ہے مثال معنوی طاقت اور ایمانی قدرت کی قدر کرنی چاہیے۔

ریبر معظم انقلاب اسلامی نے دشمن کے مد مقابل اور اس کو پیچھے بٹنے پر مجبور کرنے میں قوم کے ایثار، شجاعت، استحکام اور ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: انقلاب اسلامی کی کامیابی اور اسلامی نظام کی تشکیل کے آغاز میں دشمن یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ ایرانی عوام ان طوفانوں کے سامنے ٹک سکے گی لیکن آج 30 سال کے تجربے کے بعد اعتراف کر رہا ہے کہ اسلامی ایران اور اس کی مسلح افواج آج سب سے طاقتور اور قوی مقام تک پہنچ گئی ہیں۔

ریبر معظم نے مسلح افواج کو معنوی فضائل و کمالات سے آراستہ رینے، علم حاصل کرنے، مکمل نظم و انضباط رکھنے اور عمل میں اخلاق پیدا کرنے کی سفارش کی۔

اس تقریب میں جمہوری اسلامی ایران کی بڑی فوج کے سربراہ میجر جنرل احمد رضا پورستان نے ریبر معظم انقلاب اسلامی کو خوش آمدید کہتے ہوئے فوجی دستوں کی رزمی سطح کے ارتقاء کی طرف اشارہ کیا اور آئٹھ سالہ دفاع مقدس کے تجربات سے استفادہ کرنے، خود اعتمادی کے جذبہ کو قوت یہم پہنچانے، خلاقیت و پیشرفت کو تمام شعبوں میں مد نظر رکھنے کے بارے میں روپورٹ پیش کی اور ان کو فوج کے پروگراموں کا حصہ قرار دیا۔

اسی طرح امام علی (ع) یونیورسٹی کے کمانڈرمیجر فتح اللہ رشید زادہ نے بھی فوجی یونیورسٹی کی ثقافتی، تربیتی اور علمی سرگرمیوں کے بارے میں ریبر معظم کو آگاہ کیا۔



ربر معظم انقلاب اسلامی نے اس تقریب میں بعض افسروں ، اساتید، ممتاز طلباء ، فوج کے جانبازوں اور میجر جنرل شہید رمضانی کی ہمسر کو انعامات عطا کئے اور بھرتی ہونے والے نئے طلباء کو بھی نشانوں سے نوازا۔

اس کے بعد گراونڈ میں موجود مسلح افواج نے فدائیان ولایت مشقتوں کو" وحدت ، مقاومت اور عزت " کے عنوان سے پیش کیا اس تقریب کے اختتام پرمیدان میں موجود دستوں نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا۔